



الطُّور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

کوہ طور کی قسم۔

وَ الطُّورِ ۱

اور اس کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے۔

وَ كِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۲

کشادہ ورق میں۔

فِي رَقٍّ مَّنْشُورٍ ۳

اور آباد گھر کی۔

وَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴

اور اونچی چھت کی۔

وَ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵

اور جوش مارتے سمندر کی۔

وَ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶

کہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷

اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔

مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ ^{لَا}

جس دن آسمان لرزنے لگے کپکپا کر۔

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ^{لَا}

اور پہاڑ سچ سچ اڑنے لگیں۔

وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ^ط

تو اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہو گی۔

فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ ^{لَا}

جو بیکار باتوں میں پڑے کھیل رہے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ^{لَا}

جس دن ان کو آتش جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے جائیں گے۔

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً ^ط

اور کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ^ط

تو کیا یہ جادو ہے یا تمکو نظر ہی نہیں آتا۔

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ^ط

اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے یکساں ہے جو کام تم کیا کرتے

إِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِمَّا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿٦﴾

تھے یہ ان ہی کا تلو بدلہ مل رہا ہے۔

لَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿٧﴾

جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

جَ فَآكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمُ وَوَقَّهِمُ رَبُّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٨﴾

جو کچھ انکے پروردگار نے انکو بخشا اسکی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے۔ اور انکے پروردگار نے انکو دوزخ کے عذاب سے بچالیا۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩﴾

کھا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔

جَ مُتَكِينٍ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿١٠﴾

تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم انکی بیویاں بنا دیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿١١﴾

اور جو لوگ ایمان لائے اور انکی اولاد بھی راہ ایمان میں انکے پیچھے چلی۔ ہم انکی اولاد کو بھی انکے درجے تک پہنچا دیں گے اور انکے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔

اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو انکا جی
چاہے گا ہم انکو عطا کریں گے۔

وَأَمَدَدْنَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا
يَشْتَهُونَ ﴿٢٢﴾

وہاں وہ جام شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے
جسکے پینے سے نہ کوئی لغوبات ہوگی نہ کوئی گناہ
کا کام۔

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَعْوُ فِيهَا
وَلَا تَأْتِيهِمْ ﴿٢٣﴾

اور نوجوان خدمتگار جو ایسے ہوں گے جیسے
چھپائے ہوئے موتی جو انکے آس پاس پھریں
گے۔

وَيُطَوَّفُونَ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ
لُؤْلُؤُ مَكْنُونٌ ﴿٢٤﴾

اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس
میں گفتگو کریں گے۔

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٥﴾

کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں
اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔

قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا
مُشْفِقِينَ ﴿٢٦﴾

تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم
ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔

فَمَنْ لِّلَّهِ عَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ
السَّمُومِ ﴿٢٧﴾

اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے۔

إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ^ط

الْبَرُّ الرَّحِيمُ^ع
۲۸

بیشک وہ احسان کرنے والا ہے مہربان ہے۔

فَذَكِّرْ^ط فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَلَا لَجُنُونٍ^ط
۲۹

تو اے پیغمبر تم نصیحت کرتے رہو تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ دیوانے۔

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ
رَأْيَ الْمُؤْمِنِينَ^ط
۳۰

کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور ہم اسکے لئے زمانے کی گردش کا انتظار کر رہے ہیں۔

قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ^ط
۳۱

کہدو کہ انتظار کئے جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ
هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ^ط
۳۲

کیا انکی عقلیں انکو یہی سکھاتی ہیں۔ یا یہ لوگ ہیں ہی شریر۔

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ^ج بَلْ لَّا
يُؤْمِنُونَ^ج
۳۳

کیا کفار یہ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر نے قرآن از خود بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔

فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِنْ كَانُوا
صَادِقِينَ^ط
۳۴

اگر یہ سچے ہیں تو یہ بھی ایسا کلام بنا لائیں۔

کیا یہ کسی کے پیدا کئے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں۔ یا یہ اپنے آپکو خود پیدا کرنے والے ہیں۔

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْمَخْلُقُونَ ﴿٢٥﴾

یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ نہیں بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔

أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ
لَا يُوقِنُونَ ﴿٢٦﴾

کیا انکے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں۔ یا یہ کہیں کے داروغہ ہیں۔

أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ
الْمُصَيِّرُونَ ﴿٢٧﴾

یا انکے پاس کوئی سیرٹھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان سے باتیں سن آتے ہیں تو جو سن کر آتا ہے وہ کھلی سند لیکر آئے۔

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ
فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ
مُبِينٍ ﴿٢٨﴾

کیا اللہ کی تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لئے بیٹے۔

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبُنُونَ ﴿٢٩﴾

اے پیغمبر کیا تم ان سے معاوضہ مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ
مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿٣٠﴾

یا انکے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اسے لکھ

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ

يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾

لیتے ہیں۔

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا
هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٢﴾

کیا یہ کوئی داؤں کرنا چاہتے ہیں تو کافر تو خود
داؤں میں آنے والے ہیں۔

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تو
انکے شریک بنانے سے پاک ہے۔

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا
يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿٤٤﴾

اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھیں تو
کہیں کہ یہ ایک تہ بہ تہ بادل ہے۔

فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي
فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٥﴾

پس انکو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اس روز کا سامنا
کر لیں جس میں یہ بیہوش کر دیئے جائیں گے۔

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾

جس دن ان کا کوئی داؤں کچھ بھی کام نہ آنے
گا اور نہ انکو کہیں سے مدد ہی ملے گی۔

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾

اور ظالموں کے لئے اسکے سوا اور بھی عذاب
ہے لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔

اور تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں
صبر کئے رہو۔ تم تو ہماری آنکھوں کے سامنے
ہو اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف
کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ



اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور
ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی اسکی
تسبیح کیا کرو۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ
النُّجُومِ

